

## 10th Class Physics Chapter 14 Current Electricity Urdu Medium KPK Boards Online Mcqs

| Sr | Questions                                                                                       | Answers Choice                                                                                           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | ایک 6 اوہم کے رزسٹر میں سے 3 ایمپیر کا کرنٹ گزرتا ہے۔ اس رزسٹر کے اطراف وولٹیج ہوگی             | A. 2 V<br>B. 8 V<br>C. 18 V<br>D. 36 V                                                                   |
| 2  | SI-الیکٹرک کرنٹ کا یونٹ ہے                                                                      | A. وولٹ<br>B. ایمپیر<br>C. جول<br>D. کولمب                                                               |
| 3  | -کرنٹ کو یونٹ ہے                                                                                | A. وولٹ<br>B. ایمپیر<br>C. جول<br>D. کولمب                                                               |
| 4  | e.m.f: الیکٹرک پوٹینشل اور                                                                      | A. ایک جیسی مقدار میں ہیں<br>B. دو مختلف مقدار میں ہیں<br>C. ان کے پونٹس مختلف ہیں<br>D. اے اور بی دونوں |
| 5  | جب ہم ایک سادہ الیکٹرک سرکٹ میں وولٹیج کو نوگنا کر دیتے ہیں تو--- کی مقدار دگنا ہوتی ہے         | A. کرنٹ<br>B. پاور<br>C. رزسٹنس<br>D. A اور B دونوں                                                      |
| 6  | پوٹینشل ڈفرینس کا ایس آئی یونٹ ہے                                                               | A. ایمپیر<br>B. کولمب<br>C. وولٹ<br>D. جول                                                               |
| 7  | -کرنٹ کی مقدار معلوم کرنے کا فارمولا ہے                                                         | A. $I = t/Q$<br>B. $I = Q/t$<br>C. $I = QR$<br>D. $I = VR$                                               |
| 8  | -ایک ملی ایمپیر برابر ہوتا ہے                                                                   | A. 10-13 A<br>B. 10-6 A<br>C. 10-9 A<br>D. 10-5 A                                                        |
| 9  | کس تار کی رزسٹنس زیادہ ہوگی؟                                                                    | A. پتلی تار<br>B. موٹی تار<br>C. انتہائی پتلی تار<br>D. تمام                                             |
| 10 | :الیکٹرک کرنٹ کا ایس آئی یونٹ ہے                                                                | A. وولٹ<br>B. جول<br>C. الیکٹرون وولٹ<br>D. ایمپیر                                                       |
| 11 | :الیکٹرک کرنٹ کا اچھا کنڈکٹر ہے                                                                 | A. لکڑی<br>B. ریڈ<br>C. پلاسٹک<br>D. کوپر                                                                |
| 12 | کنڈکٹر میں الیکٹرک کی بہاؤ کی وجہ ہے                                                            | A. پوزیٹو اننز<br>B. نیگیٹو انیز<br>C. پوزیٹو چارجز<br>D. آزاد الیکٹرونز                                 |
| 13 | سیریز طریقے سے جوڑے گئے بلبوں کی تعداد میں اضافہ کرنے سے ان کی روشنی کی شدت پر کیا فرق پڑتا ہے؟ | A. اضافہ<br>B. کمی ہوتی ہے<br>C. کوئی فرق نہیں پڑتا<br>D. بتانا مشکل ہے                                  |
| 14 | حیسیفک رزسٹنس کا یونٹ ہے                                                                        | A. $(\Omega m)$<br>B. $\Omega m^{-1}$<br>C. $\Omega^{-1} m$<br>D. $\Omega$                               |
| 15 | :کرنٹ کے بہاؤ میں رکاوٹ کو کہتے ہیں                                                             | A. ای ایم ایف<br>B. کپیسٹیٹنس<br>C. الیکٹرک رزسٹنس                                                       |

|    |                                                                                                      |                                                                                                                                        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | e.m.f-کا کلیہ ہے                                                                                     | <p>A. <math>E = J/Q</math></p> <p>B. <math>E = W/Q</math></p> <p>C. <math>E = W/t</math></p> <p>D. <math>E = Q/I</math></p>            |
| 17 | . ایک الیکٹرک سرکٹ میں الیکٹرون کم پوٹینشل سے زیادہ پوٹینشل کے طرف حرکت کرتے ہیں تو                  | <p>A. انرجی خارج کریں گے</p> <p>B. پاور حاصل کریں گے</p> <p>C. پوٹینشل حاصل کریں گے</p> <p>D. اپنی شناخت کھو دیں گے</p>                |
| 18 | ان میں سے کونسا اوہمک کنڈکٹر ہے؟                                                                     | <p>A. تھر مسٹر</p> <p>B. فلامنٹ</p> <p>C. میٹلز</p> <p>D. یہ تمام</p>                                                                  |
| 19 | -آلیکٹرک پاور کا یونٹ ہے                                                                             | <p>A. واٹ</p> <p>B. ایمپیر</p> <p>C. جول</p> <p>D. ولٹ</p>                                                                             |
| 20 | :اگر دو پوائنٹس کا پوٹینشل ڈفرینس ولٹ ہو اور ایک کولمب چارج پوائنٹس کے درمیان بہے تو انرجی حاصل ہوگی | <p>A. QV</p> <p>B. Q</p> <p>C. V</p> <p>D. 1J</p>                                                                                      |
| 21 | -واٹنگ مشین کی الیکٹرک پاور ہوتی ہے                                                                  | <p>A. 50</p> <p>B. 750</p> <p>C. 100</p> <p>D. 800</p>                                                                                 |
| 22 | جب ہم ایک سادہ سرکٹ میں وولٹیج کو دو گنا کردیتے ہیں تو کون سی مقدار دو گنا ہوجاتی ہے؟                | <p>A. کرنٹ</p> <p>B. پاور</p> <p>C. رزسٹنس</p> <p>D. اے اور بی دونوں</p>                                                               |
| 23 | :اگر ہم ایک سرکٹ میں رزسٹنس کو کونسٹنٹ رکھتے ہوئے کرنٹ اور وولٹیج دونوں کو دو گنا کردیں تو پاور      | <p>A. میں کوئی فرق نہیں پڑے گا</p> <p>B. نصف ہوجائے گا</p> <p>C. دو گنا ہوجائے گی</p> <p>D. چار گنا ہوجائے گی</p>                      |
| 24 | -آلیکٹرک انرجی برابر ہوتی ہے                                                                         | <p>A. QR</p> <p>B. QV</p> <p>C. QC</p> <p>D. Qt</p>                                                                                    |
| 25 | .... جب رزسٹنس کو سیریز میں جوڑا جاتا ہے تو ان میں سے بہنے والا کرنٹ                                 | <p>A. مختلف</p> <p>B. صفر</p> <p>C. برابر</p> <p>D. -کوئی نہیں</p>                                                                     |
| 26 | -آیک ملٹیکرو ایمپیر برابر ہے                                                                         | <p>A. 10-3 A</p> <p>B. 10-6 A</p> <p>C. 10-9 A</p> <p>D. 10-12 A</p>                                                                   |
| 27 | -ایک واٹ برابر ہوتا ہے                                                                               | <p>A. JS</p> <p>B. JS-1</p> <p>C. J2S</p> <p>D. SJ-1</p>                                                                               |
| 28 | -رزسٹنس کا آیس ائی یونٹ ہے                                                                           | <p>A. ایمپیر</p> <p>B. ولٹ</p> <p>C. اوہم</p> <p>D. فیراڈ</p>                                                                          |
| 29 | سیریز طریقے سے جوڑے گئے بلبوں کی تعداد میں اضافہ کرنے سے ان کی روشنی کی شدت پر کیا اثر پڑتا ہے       | <p>A. اضافہ ہوتا ہے</p> <p>B. کم ہوتا ہے</p> <p>C. کوئی فرق نہیں پڑتا</p> <p>D. جتنا مشکل ہے</p>                                       |
| 30 | :جول کے قانون کا حسابی فارمولا ہے                                                                    | <p>A. <math>W = I^2Rt</math></p> <p>B. <math>W = I^2R</math></p> <p>C. <math>W = I \times R</math></p> <p>D. <math>W = I^2t</math></p> |
| 31 | .ای-ایم- ایف کا آیس ائی یونٹ ہے                                                                      | <p>A. NC-1</p> <p>B. NC</p> <p>C. CJ</p> <p>D. JC-1</p>                                                                                |
| 32 | :ایک کلو واٹ آور سے مراد ہے                                                                          | <p>A. 3.6 MJ</p> <p>B. 36 MJ</p> <p>C. 360 MJ</p> <p>D. 3600 MJ</p>                                                                    |
| 33 | :الیکٹرک پاور کا آیس ائی یونٹ ہے                                                                     | <p>A. ولٹ</p> <p>B. واٹ</p> <p>C. ایمپیر</p> <p>D. جول</p>                                                                             |

|    |                                                |                                                                                                                             |
|----|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 34 | ایک مثالی وولٹ میٹر کی رزٹنس ہونی ہے           | <p>A. بہت کم</p> <p>B. بہت زیادہ</p> <p>C. حائل نہیں</p> <p>D. نہ کم نہ زیادہ</p>                                           |
| 35 | پوٹینشل ڈفرینس کی پیمائش کا آلہ ہے             | <p>A. گیلوانومیٹر</p> <p>B. وولٹ میٹر</p> <p>C. ایمیٹر</p> <p>D. بیرومیٹر</p>                                               |
| 36 | کنڈکٹر میں الیکٹرک کرنٹ..... کے بہاؤ کی وجہ ہے | <p>A. آزاد الیکٹرونز</p> <p>B. نیگیٹو آئنز</p> <p>C. پوزیٹو چارجز</p> <p>D. پوزیٹو آئنز</p>                                 |
| 37 | چارجز کے بہاؤ کی شرح کو کہتے ہیں               | <p>A. کولمب</p> <p>B. اوہم</p> <p>C. وولٹ</p> <p>D. کرنٹ</p>                                                                |
| 38 | کنڈکٹر میں الیکٹرک بہاؤ کی وجہ ہے              | <p>A. پوزیٹو آئنز</p> <p>B. نیگیٹو آئنز</p> <p>C. پوزیٹو چارجز</p> <p>D. آزاد الیکٹرونز</p>                                 |
| 39 | e.m.f الیکٹرک پوٹنشل اور                       | <p>A. ایک جیسی مقداریں ہیں</p> <p>B. مختلف مقداریں ہیں</p> <p>C. ان کے یونٹس مختلف ہیں</p> <p>D. کوئی نہیں</p>              |
| 40 | الیکٹروموٹو فورس کا حسابی فارمولا ہے           | <p>A. <math>E = W/Q</math></p> <p>B. <math>E = Q/W</math></p> <p>C. <math>E = WQ</math></p> <p>D. <math>E = W^2Q</math></p> |